


# COVID-19 کے دوران بس کے سفرات کے لئے سفارشات

1



روزانہ کی بنیاد پر جراثیم کش استعمال کر کے اپنے ڈرائیور کے کابین اور سیلون کو صاف کریں۔ خاص طور پر دن میں کئی بار۔ خاص طور پر دروازے کے اندر اور باہر ہینڈل پر بھی توجہ دیں، اسی طرح ڈرائیور کے کابین کو صاف کرتے وقت اسٹیئرنگ ویبل اور ڈیش بورڈ پر بھی توجہ دیں۔ بس کے سیلون / داخلہ کی صفائی کرتے وقت مسافروں کی نشستوں اور ہاتھوں کی انفرادی روک تھام اور ان کی گرفت پر توجہ دیں۔

2



رکنے والے مقامات پر مستقل طور پر مسافروں کے ٹوکری کو وینٹیلیٹ کریں۔ اگر درجہ حرارت کی اجازت دیتا ہے تو، کھڑکیوں کے کھلنے کے ساتھ گاڑی چلائیں۔ ایئر کنڈیشننگ یا ہیٹنگ کے استعمال سے پرہیز کریں۔

3



سیکنڈ تک پانی اور مائع صابن سے ہاتھ دھوئے۔ گاڑی میں داخل ہونے اور جانے کے بعد اور صفائی کے مطلوبہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد باقاعدگی سے ہاتھوں سے جراثیم کش کریں۔

4



ایکٹرائزنگ ٹکنگ ٹولز کا استعمال کرتے وقت یا نقد ہینڈل کرتے وقت دستاویزے پہنیں۔

5




ڈیوٹی کے دوران جب بھی ممکن ہو ڈرائیور کے کابین میں رہیں۔ جب تک کہ دوسری صورت میں ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ مسافروں سے بات چیت کریں تو حفاظتی ماسک اور دستاویزے پہنیں۔

6



سیلون کے اندر بات چیت کرتے وقت مسافروں سے اچھی فاصلہ برقرار رکھیں۔ پروٹیکشن ماسک اور دستاویزے پہنیں اور ہر فریبی رابطے کے بعد ہاتھوں کو جراثیم کش کریں۔

7




مسافروں کو ایک کو برقرار رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ دوسروں سے 1 میٹر کا فاصلہ۔ تعمیل کی نگرانی کریں، خاص طور پر جب سانس کی علامات والے مسافروں کی شناخت کریں۔

8



کھانسی اور چھینکنے (بوا سے بوند بوندوں کے ذریعے) اور سیدھے رابطے کے ذریعے پھیلنے والے وائرس سے آگاہ رہیں۔

9



اگر آپ یا آپ کے کنبہ کوویڈ 19 کی COVID-19 کے افراد کی علامات ظاہر کرتے ہیں جیسے خشک کھانسی یا بخار، تو اپنے مینیجر کو فوراً آگاہ کریں۔

10



اپنی کمپنی کے ذریعے دیئے گئے کسی خاص رہنما خطوط اور صحت عامہ کے ذریعے جاری کردہ عمومی سفارشات / ہدایات پر عمل کریں۔ ذمہ دار بنیں اور اپنی عقل کا استعمال کریں۔

